



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

May 11, 2026

### **SECP Approves Islamic Brokerage Windows for Five Securities Brokers**

**ISLAMABAD, May 11:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has allowed five securities brokers to launch dedicated Shariah compliant brokerage services through Islamic windows, enabling investors to carry out halal stock market investments.

The segregated Islamic trading operations are expected to expand Shariah compliant investment opportunities in Pakistan's capital market and attract both retail and institutional investors seeking Islamic financial products.

Under this arrangement, brokers will invest clients' funds only in Shariah compliant shares, Sukuk, and Islamic Exchange Traded Funds (ETFs) through separate Islamic brokerage operations maintained by the approved brokers.

The approvals for establishing dedicated Islamic windows at brokerage houses were granted after reviewing the brokers' operational models, governance structures, compliance arrangements, and Shariah opinions.

Under the approved framework, brokers will maintain separate Islamic operations, including dedicated systems and segregated client and house bank accounts with Islamic banks, to ensure transparency and compliance with Shariah principles.

Trading through these Islamic windows will be restricted to Shariah compliant listed companies, including constituents of the PSX-KMI All Share Islamic Index, as well as Sukuk and Islamic ETFs.

The Islamic window model is a phased and facilitative approach designed to enable conventional brokerage houses to gradually develop and expand Shariah compliant services within the existing regulatory framework. Based on international best practices, the model is expected to support the long term growth of Pakistan's Islamic capital market.

The dedicated Islamic brokerage windows will help attract more retail and institutional investors seeking Shariah compliant investment opportunities. The initiative will also strengthen the development of an inclusive and ethical financial system in Pakistan.

The SECP has been undertaking continuous reforms to promote Islamic finance as a key pillar of an inclusive, resilient, and ethically driven financial ecosystem.

**ایس ای سی پی نے پانچ سیکیورٹیز بروکرز کو اسلامی بروکرینج ونڈوز کھولنے کی منظوری دے دی**

**اسلام آباد، 11 مئی:** سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پانچ سیکیورٹیز بروکرز کو خصوصی اسلامی ونڈوز کے ذریعے شریعہ کمپلائنٹ بروکرینج سروسز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد سرمایہ کاروں کو حلال طریقے سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرنا ہے۔

خصوصی اسلامی ٹریڈنگ کے آپریشنز دستیاب ہونے سے اسلامی مالیاتی مصنوعات میں دلچسپی رکھنے والے ریٹیل اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں شریعہ کمپلائنٹ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔

خصوصی اسلامی ونڈوز کے ذریعے، منظور شدہ بروکرز اپنے پاس رجسٹرڈ سرمایہ کاروں کے فنڈز صرف شریعہ کمپلائنٹ شیئرز، سکوک اور اسلامی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز میں ہی انوسٹ کریں گے۔ بروکریج ہاؤسز میں مخصوص اسلامی ونڈوز کھولنے کی منظوری بروکرز کے آپریشنل ماڈلز، گورننس اسٹرکچر، کمپلائنس انتظامات اور شریعہ آراء کا جائزہ لینے کے بعد دی گئی۔

اس نئے فریم ورک کے تحت بروکرز سرمایہ کاروں کو علیحدہ اسلامی آپریشنز فراہم کریں گے، جن میں مخصوص سسٹمز اور اسلامی بینکوں میں علیحدہ کلانٹ اور ہاؤس بینک اکاؤنٹس شامل ہوں گے، تاکہ شفافیت اور شریعہ اصولوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔

ان اسلامی ونڈوز کے ذریعے ٹریڈنگ صرف شریعہ کمپلائنٹ لسٹڈ کمپنیوں، آل شیئر اسلامک انڈیکس میں شامل کمپنیوں، سکوک اور اسلامی ای ٹی ایف تک محدود ہوگی۔

اسلامی بروکریج ونڈو ماڈل کا مقصد روایتی بروکریج ہاؤسز کو موجودہ ریگولیٹری فریم ورک کے اندر بتدریج شریعہ کمپلائنٹ سروسز متعارف کرانے کے قابل بنانا ہے۔ بین الاقوامی بہترین روایات پر مبنی یہ ماڈل پاکستان کی اسلامی کیپٹل مارکیٹ کی طویل المدتی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔

اسلامی بروکریج ونڈوز شریعہ کمپلائنٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے ریٹیل اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور پاکستان میں ایک جامع اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ میں معاون ہوں گے۔

ایس ای سی پی پاکستان میں اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے مسلسل اصلاحات متعارف کرا رہا ہے تاکہ اسے ایک جامع، مضبوط اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی مالیاتی نظام کو فروغ دیا جا سکے۔